



## UNDERTAKING BY THE APPLICANT:

I \_\_\_\_\_ s/d/w of \_\_\_\_\_ do hereby solemnly declare and affirm that I have read and understood the instructions and conditions for appearing in the test, and I have filled-up the application form as per instructions given below. In case of any information contained herein is found at any stage to be missing, untrue, false or forged, my candidature can be cancelled at any stage (even after employment, if so revealed later), and I shall be liable to legal action.

Date: \_\_\_\_\_ Thumb impression \_\_\_\_\_ candidate's signature \_\_\_\_\_

## GENERAL INSTRUCTIONS/INFORMATION:

- Fill the Application Form properly with complete and correct information.
- DO NOT leave any field blank, otherwise your application may not be entertained.
- Candidate applying for the prescribed post must possess a driving license (HTV/LTV).
- Incorrect, false or forged information may result in cancellation of your candidature at any stage, even after employment, and also proceeding of a legal action.
- Attach your recent Passport size photograph, copies of all relevant academic documents & copy of CNIC.
- Candidates may submit their application form through courier or by hand.
- Mobiles phones or any Electronic Gadgets are not allowed in Test center premises.
- Application form can also be downloaded from our official website [www.dscmalakand.gov.pk](http://www.dscmalakand.gov.pk)
- Last Date for Submission of Application form is **04.04.2025**

Please send application form to:

Office of the District & Sessions Judge/Zilla Qazi,  
Malakand at Batkhela

For any information feel free to contact:



Tel: 0932-412474

## ﴿ چال چلن سرٹیفکیٹ ﴾

ہم علاقہ مشران تصدیق کرتے ہیں کہ مسمیٰ / مسماة \_\_\_\_\_ ولد / دختر \_\_\_\_\_ موضع \_\_\_\_\_  
تخلیل \_\_\_\_\_ ضلع ملاکنڈ کا / کی جدی باشندہ ہے اور ایک \_\_\_\_\_  
معزز خاندان سے تعلق رکھتا / رکھتی ہے۔ یہ کہ مسمیٰ / مسماة \_\_\_\_\_ کا چال چلن درست ہے اور  
وہ کسی بھی غیر اخلاقی فعل یا جرم میں ملوث نہیں رہا ہے۔

تصدیق کنندہ نمبر: ۲

نام بمعہ ولدیت: \_\_\_\_\_  
قومی شناختی کارڈ نمبر: \_\_\_\_\_  
دستخط: \_\_\_\_\_

تصدیق کنندہ نمبر: ۱

نام بمعہ ولدیت: \_\_\_\_\_  
قومی شناختی کارڈ نمبر: \_\_\_\_\_  
دستخط: \_\_\_\_\_